

Suraj Cotton Mills Limited
Election of Directors

The Members of Suraj Cotton Mills Limited (the “Company”) are hereby notified that pursuant to the provisions of Section 159 (4) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed with the Company notices of their intention to offer themselves for election as Directors at the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, 2 April 2019 at 9:30 am at 7-B-3, Marina Homes, Aziz Avenue, Gulberg-V, Lahore.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Mr. Ahsan Bashir | 5. Mr. Khalid Bashir |
| 2. Mr. Adil Bashir | 6. Mr. Sharik Bashir |
| 3. Mr. Amjad Mahmood | 7. Mr. Humayun Maqbool |
| 4. Mr. Muhammad Iqbal | |

Since the number of persons who have offered themselves to be elected as Directors is not more than the number of Directors fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the above named seven candidates shall be deemed to be elected as Directors at the above referred extra-ordinary general meeting of the Company for a term of three years.

Lahore: 26 March 2019

Company Secretary

سورج کائنات ملز لمیٹڈ

ڈائریکٹران کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (4) 159 کی پیروی میں سورج کائنات ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے اراکان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام 3-B-7، مرینہ ہومز، عزیز الونیو، گلبرگ-V، لاہور میں 2 اپریل 2019 بروز منگل کو صبح 09:30 بجے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں سورج کائنات ملز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کے انتخابی مقابلہ میں حصہ لینے کیلئے خود کو پیش کرنے کے اپنے اظہار نوٹسز کمپنی کے ہاں داخل کروائے ہیں۔

- | | |
|------------------------|---------------------|
| i- جناب احسن بشیر | ii- جناب عادل بشیر |
| iii- جناب امجد محمود | iv- جناب محمد اقبال |
| v- جناب خالد بشیر | vi- جناب شارق بشیر |
| vii- جناب ہمایوں مقبول | |

چونکہ امیدواران کی تعداد جنہوں نے منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے لہذا بالائے نامی امیدواران کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں تین سالوں کی مدت کے لئے کمپنی کے ڈائریکٹر منتخب تصور ہونگے۔

کمپنی سیکرٹری

لاہور:

26 مارچ 2019ء